

# عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُنْعَالُ

وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، وہ بڑا ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔

## الرَّعْدُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمَرْعُ

الف لام میم راء،

تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ

یہ آیتیں ہیں کتاب (کتاب الہی) کی۔

وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ

اور جو کچھ اترا (نازل ہوا) تجھ کو تیرے رب سے، سو تحقیق (میں حق) ہے،

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

لیکن بہت لوگ نہیں مانتے۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

اللہ وہ ہے، جن نے اونچے بنائے آسمان بن (بغیر) ستون (کے) (جیسا کہ تم) دیکھتے ہو،

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

پھر قائم (جلوہ فرما) ہوا عرش پر، اور کام لگایا (پابند کیا ایک قانون کے) سورج اور چاند۔

كُلُّ نَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمَّىٰ ۚ

ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہری (مقرر کی ہوئی) مدت تک۔

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٦١﴾

(وہی) تدبیر کرتا ہے (ہر) کام کی، کھولتا (کھول کھول کر بیان کرتا) ہے نشانیاں، شاید تم اپنے رب سے ملنا یقین کرو۔

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۚ

اور وہی ہے جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجھ (پہاڑوں کے ٹکڑے)، اور (جاری کیں) ندیاں۔

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ

اور ہر میوے کے رکھے اس میں جوڑے دوہرے (قسم قسم کے)،

يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ ۚ

ڈھانکتا ہے دن پر رات۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

اس میں نشانیاں ہیں ان کو جو دھیان (غور و فکر) کرتے ہیں۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ

اور زمین میں کئی کھیت (خٹے) ہیں ملے ہوئے،

وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ

اور باغ ہیں انگور کے، اور کھیتی، اور کھجوریں جزلی، پاتے (جو سیراب ہوتے) ہیں ایک پانی (سے)۔

وَنُفُضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ ۚ

اور ہم زیادہ کرتے (فضیلت دیتے) ہیں ایک کو ایک سے میوے (ذائقے) میں۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾

اس میں نشانیاں ہیں اُن کو جو بوجھتے (عقل سے کام لیتے) ہیں۔

وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْمُهُمْ آءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١١﴾

اور اگر تو اچنبھے کی بات چاہے، تو اچنبھا ہے اُنکا کہنا، (ک) کیا جب ہو گئے ہم مٹی (و) کیا ہم نئے نہیں (از سر نو پیدا کئے جائیں) گے؟

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ﴿١٢﴾

وہی (لوگ) ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب سے۔

وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴿١٣﴾

اور وہی (لوگ) ہیں کہ طوق ہیں اُن کی گردنوں میں۔

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٤﴾

اور وہ (لوگ) ہیں دوزخ والے، وہ اس میں رہا کریں گے۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ ﴿١٥﴾

اور شتاب (جلدی) چاہتے ہیں تجھ سے برائی، آگے (پہلے) بھلائی سے، اور ہو چکی ہیں اُن سے پہلے کہاوتیں (عذاب کی مثالیں)۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ﴿١٦﴾

اور تیرا رب معاف بھی کرتا ہے لوگوں کو اُنکی گنہگاری پر۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٧﴾

اور (یقیناً) تیرے رب کی مار (بھی) سخت ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴿١٨﴾

اور کہتے ہیں منکر، کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اسکے رب سے؟

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾

تو تو ڈر سنانے والا ہے، اور ہر قوم کو ہوا ہے راہ بتانے والا۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴿٨﴾

اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں ہے رکھتی ہر مادہ، اور جو سکڑتے ہیں پیٹ، اور بڑھتے ہیں۔

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٩﴾

اور ہر چیز کو ہے اس پاس گنتی۔

عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ﴿١٠﴾

جاننے والا چھپے اور کھلے (ظاہر) کا، سب سے بڑا اوپر۔

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ

برابر ہے (اس کے لئے) تم میں جو چپکے بات کہے اور جو کہے پکار کر،

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١١﴾

اور (وہ بھی) جو چھپ رہا ہے رات میں اور گلیوں (چلتا) پھرتا ہے دن کو۔

لَهُرُّ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴿١٢﴾

اسکو پھیری والے (نگران) ہیں، بندے کے آگے سے اور پیچھے سے، اسکو بچاتے (اسکی دیکھ بھال کرتے) ہیں اللہ کے حکم سے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١٣﴾

اللہ نہیں بدلتا، جو ہے کسی قوم کو، جب تک وہ نہ بدلیں جو اپنے ہیچ ہے،

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ﴿١٤﴾

اور جب چاہے اللہ کسی قوم پر بُرائی، پھر وہ نہیں پھرتی۔

وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّالٍ ﴿١٢﴾

کوئی نہیں انکو اس بن (کے بغیر) مددگار۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٣﴾

وہی ہے تم کو دکھاتا ہے بجلی ڈر کو اور امید کو، اور اٹھاتا ہے بدلیاں (بادل) بھاری۔

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

اور پڑھتی (سبح کرتی) ہے گرج (رعد) خوبیاں اسکی اور سب فرشتے (بھی سبح کرتے ہیں) اسکے ڈر سے۔

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي آلِهِ

اور (وہی) بھیجتا ہے کڑا کے (بجلیاں)، پھر ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور (جس وقت) یہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں،

وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٤﴾

اور اسکی آن (طاقت) سخت ہے۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ <sup>ط</sup>

اسی کو پکارنا سچ ہے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ

اور جن کو پکارتے ہیں اسکے سوا، نہیں پہنچتے انکے کام پر کچھ،

إِلَّا كَبَسِطَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ <sup>ح</sup>

مگر جیسے کوئی پھیلا رہا دو ہاتھ طرف پانی کے، کہ آپنچے اس کے منہ تک، اور وہ کبھی نہ پہنچے گا۔

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٥﴾

اور جتنی پکار ہے مکروں کی سب بھٹکتی (بیگار) ہے۔

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمان و زمین میں، خوشی سے اور زور سے،

وَوَلِّلْنَاهُم بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴿١٧﴾

اور ان کی پرچھائیاں (بھی سجدہ کرتی ہیں) صبح اور شام۔ (سجدہ)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

پوچھ، کون ہے رب آسمان و زمین کا؟

قُلِ اللَّهُ

کہہ، اللہ۔

قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

کہہ، پھر تم نے کچھ سے ہیں اسکے سوا حمایتی جو مالک نہیں اپنے بھلے بُرے کے؟

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

کہہ، کوئی برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھتا؟

أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ

یا کہیں برابر ہے اندھیرا اور اجالا؟

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ

یا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک، کہ انہوں نے کچھ بنایا ہے جیسے بنایا اللہ نے، پھر مل (متشابه ہو) گئی پیدائش انکی نظر میں۔

قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٨﴾

کہہ، اللہ ہے بنانے والا ہر چیز کا، اور وہی ہے اکیلا زبردست۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا

اتارا (برسایا) آسمان سے پانی، پھر بھرے (بہ نکلے) نالے اپنے اپنے (ظرف کے) موافق،

فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا

پھر اوپر لایا وہ نالا (سیلاب) جھاگ پھولا ہوا۔

وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ

اور جس چیز (دھات کو دھونکتے) پگھلاتے ہیں آگ میں واسطے زیور کے یا سہاب کے، اس میں بھی جھاگ ہے ویسا ہی۔

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ

یوں ٹھہراتا (بیان کرتا) ہے اللہ صحیح اور غلط۔

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

سو وہ جو جھاگ ہے سو (زائل ہو) جاتا ہے سوکھ کر۔ اور وہ جو کام آتا ہے لوگوں کے، سو (باقی) رہتا ہے زمین میں۔

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

یوں بتاتا ہے اللہ کہاوتیں (مثالیں)۔

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ

جنہوں نے مانا ہے اپنے رب کا حکم، انکو بھلائی ہے،

وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُد لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

اور جنہوں نے اسکا حکم نہ مانا، اگر ان پاس ہو جتنا کچھ زمین میں ہے سارا،

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ

اور اسکے برابر (اور بھی) ساتھ اسکے، سب (دے) دیں اپنی چھڑوائی (نجات) میں۔

أُولَئِكَ هُم سُوءَ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ<sup>ص</sup>

ان لوگوں کو بے بر حساب۔ اور ٹھکانا نکادوزخ ہے۔

وَبِئْسَ الْمِهَادُ

اور بُری ہے تیاری۔

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى<sup>ج</sup>

بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ اتر اچھ کو تیرے رب سے، تحقیق (حق) ہے، برابر ہوگا اسکے جو اندھا ہے؟

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ

وہ جو پورا کرتے ہیں اقرار اللہ کا اور نہیں توڑتے اقرار۔

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ

اور وہ کہ (جو) جوڑتے (رشتے ملاتے) ہیں جو اللہ نے فرمایا جوڑنا (ملانا)،

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اور اندیشہ رکھتے ہیں بُرے (سخت) حساب کا۔

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

اور وہ جو ثابت (قدم) رہے، چاہتے توجہ (رضامندی) اپنے رب کی،

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

اور کھڑی (قائم) رکھی نماز، اور خرچ کیا ہمارے دیئے میں سے چھپے اور کھلے (علانیہ)،

وَيَذَرُهُمْ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ

اور کرتے ہیں بُرائی کے مقابل بھلائی،

أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٣﴾

ان لوگوں کو ہے پچھلا (آخرت کا) گھر۔

جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ

باغ میں رہنے کے، داخل ہوں گے ان میں اور وہ جو نیک ہوئے اُنکے باپ دادوں میں، اور جو رُوؤں میں، اور اولاد میں،

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٤﴾

اور فرشتے آتے ہیں ان پاس ہر دروازے سے۔

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٥﴾

کہتے ہیں، سلامتی تم پر بدلے اسکے کہ تم ثابت (قدم) رہے، سو خوب ملا پچھلا (آخرت کا) گھر۔

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ

اور جو لوگ توڑتے ہیں اقرار اللہ کا، اسکو پکا کر کر (پختہ کرنے کے بعد)،

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

اور کاٹتے (قطع کرتے) ہیں جو چیز کہا اللہ نے اسکو جوڑنا (ملانا)، اور فساد اٹھاتے ہیں ملک (زمین) میں۔

أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٦﴾

ایسے لوگ، اُنکو ہے لعنت، اور اُنکو ہے بُرا گھر۔

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جسکو چاہے اور تنگ۔

وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور وہ رتھے ہیں دنیا کی زندگی پر،

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ ﴿٢٦﴾

اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے حساب میں مگر تھوڑا برتنا۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ

اور کہتے ہیں منکر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اسکے رب سے۔

قُلْ إِنْ أَلَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ ﴿٢٧﴾

کہہ، اللہ بچلاتا (گمراہ کرتا) ہے جسکو چاہے اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اسکو جو رجوع ہوا۔

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ

وہ یقین لائے اور چین پکڑتے ہیں اُنکے دل اللہ کی یاد سے۔

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

سنتا ہے! اللہ کی یاد ہی سے چین پاتے ہیں دل۔

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾

جو یقین لائے اور کی نیکیاں، خوبی (خوش نصیبی) ہے انکو، اور اچھا ٹھکانا۔

كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ

اسی طرح تجھ کو بھیجا ہم نے (رسول بنا کر) ایک اُمت میں کہ ہو (گزر) چکی ہیں اس سے پہلے اُمتیں،

لِتَتْلُوا عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ۗ

تا (کہ) سنا دے تو انکو جو حکم بھیجا ہم نے تیری طرف، اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمن سے۔

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

تو کہہ، وہی رب میرا ہے، کسی کی بندگی نہیں اسکے سوا،

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ ﴿٦٠﴾

اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف آتا ہوں چھوٹ کر۔

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ

اور اگر کوئی قرآن ہوا ہوتا کہ چلے اس (کی تاثیر) سے پہاڑ، یا ٹکڑے ہو اس (کے زور) سے زمین،

أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ

یا بولے اس (کے اثر) سے مردے (تب بھی ایمان نہ لاتے)۔

بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

بلکہ اللہ کے ہاتھ میں سب کام (اختیار سارا)۔

أَفَلَمْ يَأْيَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا

سو کیا خاطر جمع (اطمینان) نہیں ایمان والوں کو اس پر کہ اگر چاہے اللہ راہ پر لائے سب لوگ۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ

اور پہنچتا رہے گا منکروں کو، اُنکے کئے پر کھڑکا (آفت)،

أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ

یا اترے (نازل ہو) گا نزدیک اُنکے گھر سے، جب تک پہنچے وعدہ اللہ کا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٦١﴾

بیشک اللہ خلاف نہیں کرتا وعدہ۔

وَلَقَدْ آسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ

اور ٹھٹھا ( مذاق ) کر چکے ہیں کتنے رسولوں سے تجھ سے آگے (پہلے) ،

فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ<sup>ط</sup>

سو ڈھیل دی میں نے منکروں کو، پھر اسکو پکڑا،

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿١٢﴾

تو (دیکھ لو) کیسا تھا میرا بدلا (عذاب)۔

أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ<sup>ق</sup>

بھلا جو شخص (ذات) لئے کھڑا ہے ہر کسی کے سر پر اسکا کیا (کسب)۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا سَمُوهُمْ<sup>ج</sup>

اور ٹھہرائے ہیں اللہ کے شریک۔ کہہ، اُنکا نام لو۔

أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِيْظَهْرِ مِّنَ الْقَوْلِ<sup>ك</sup>

یا اللہ کو جتاتے ہو جو وہ نہیں جانتا زمین میں یا کرتے ہو اوپر اوپر باتیں؟

بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ<sup>ك</sup>

کوئی نہیں! پر بھلے سوچجائے (خوشنابائے) ہیں منکروں کو اُنکے فریب اور روکے گئے ہیں راہ سے۔

وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿١٣﴾

اور جس کو بھلائے (گمراہ کرے) اللہ سو کوئی نہیں اس کو (راہ) بتانے والا۔

هَلْ هُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا<sup>ط</sup> وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ<sup>ط</sup>

اُنکو مار پڑنی ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کی مار تو بہت سخت ہے۔

وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ ﴿٢٤﴾

اور کوئی نہیں انکو اللہ سے بچانے والا۔

ص ﴿٢٥﴾  
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ

احوال جنت کا، جو کہ وعدہ ملا ہے ڈروالوں کو۔

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

بہتی ہیں اسکے نیچے نہریں۔

أَكُلُوهَا ذَائِمًا وَظِلُّهَا

میوہ اسکا ہمیشہ ہے اور سایہ (لازوال)۔

ص ﴿٢٦﴾  
تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا

یہ بدلہ رہے انکا جو بچتے رہے (متقی)۔

وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٢٧﴾

اور بدلہ منکروں کا آگ ہے۔

ص ﴿٢٨﴾  
وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

اور جنکو ہم نے دی ہے کتاب، خوش ہوتے ہیں اس سے جو اترا (نازل ہوا) تیری طرف،

وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ

اور بعض فرقے نہیں مانتے اسکی بعضی بات۔

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ

کہہ، مجھ کو یہی حکم ہوا، کہ بندگی کروں اللہ کی اور شریک نہ کروں اسکے ساتھ،

إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَعَابِدٌ

اسی طرف بلاتا ہوں، اور اسی کی طرف میرا ٹھکانا۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

اور اسی طرح اتارا ہم نے یہ کلام، حکم عربی زبان میں۔

وَلِيْنَ أَتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

اور اگر تو چلے اُنکے شوق پر، بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا،

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

کوئی نہیں تیرا اللہ سے حمایتی اور بچانے والا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

اور بھیجے ہیں ہم نے کتنے رسول تجھ سے آگے (پہلے)، اور دی تھیں انکو جو زوجین (بیویاں) اور لڑکے۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

اور نہ تھا کسی رسول کو کہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے اذن (حکم) سے۔

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

ہر وعدہ ہے لکھا ہوا۔

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ<sup>صَلِّ</sup> وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور رکھتا ہے۔ اور اسی پاس ہے اصل کتاب۔

وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

اور یا کبھی دکھا دیں ہم تجھ کو کوئی وعدہ، جو دیتے ہیں انکو، یا تجھ کو بھر (اٹھا) لیں،

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

سو تیرا ذمہ تو پہنچانا ہے اور ہمارا ذمہ حساب لینا۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا<sup>ج</sup>

کیا نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین پر گھٹاتے اسکو کناروں سے۔

وَاللَّهُ حَكِيمٌ لَّا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ<sup>ج</sup>

اور اللہ حکم کرتا ہے، کوئی نہیں کہ پیچھے ڈالے اسکا حکم۔

وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤٢﴾

اور شتاب (جلد) لیتا ہے حساب۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا<sup>ط</sup>

اور فریب کر چکے ہیں اُنسے اگلے (پہلے)، سو اللہ کے ہاتھ ہیں سب فریب۔

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ<sup>ط</sup>

جانتا ہے جو کماتا ہے ہر جی۔

وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَن عُقِبِيَ الدَّارِ ﴿٤٣﴾

اور اب معلوم کریں گے منکر، کس کا ہوتا ہے پچھلا (آخرت کا) گھر۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا<sup>ج</sup>

اور کہتے ہیں منکر، تو بھیجا نہیں آیا (ہو اللہ کا)۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿١٣﴾

کہہ، اللہ بس ہے گواہ میرے تمہارے بیچ، اور (وہ شخص) جسکو خبر ہے کتاب کی۔



© Copy Rights:  
Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana  
Lahore, Pakistan  
[www.quran4u.com](http://www.quran4u.com)